



سوال

(118) اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے کہنا جائز نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس عبارت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ”اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے؟“

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ”اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ کیونکہ ان الفاظ سے یہ وہم ہوتا ہے گویا کہ مخلوق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر مجبور کر سکتا ہے، جب کہ اللہ عزوجل کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

«لَا تُكْرَهُ لَه» (صحیح مسلم، الذکر والدعاء باب العزم بالدعاء، ح: ۲۶۷۹)

”اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَا يُقُولُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ، وَلِيَعْزِمِ الرِّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مَكْرَهَ لَهُ، وَلَا يَتَغَاظَمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» (صحیح البخاری، الدعوات، باب ليعزوم المسألة فإنه لا مكره له، ح: ۶۳۳۹)

”تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اسے بولے واثق سے دعا کرنی چاہیے اور پوری رغبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور جو کچھ وہ عطا کر دے وہ اس کے لئے گراں بار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اس کے لئے کوئی بڑی بات ہے۔“

لہذا ”اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے“ جیسے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بولیں کہے: ”اللہ ایسا نہ کرے“ کیونکہ یہ الفاظ اس وہم سے بہت دور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل : صفحہ 188

محدث فتویٰ